

On December 27th, 1957 Hadhrat Khalifatul Masih II (رضي الله تعالى عنه) started the blessed project called Tehrike **Waqf-e-Jadid** (The New Dedication). The primary objective of this project was to look after the spiritual upbringing of the members living in the rural communities. The secondary objective was to bring the message of Islam to Hindu population of the country. Today, by the grace of Allah, this is now an international scheme, where every member, male or female, young or old is encouraged to partake.

Hadhrat Khalifatul Masih II (رضي الله تعالى عنه) explaining the importance of this blessed scheme stated "**This is the undertaking of Allah, and He Himself will complete it. Since it is Allah Almighty Who has put this inspiration in my heart, I shall endeavour to fulfil it even if I have to sell my house and my clothes to do so and even if not a single person assists me. Allah shall cut them off from the Jama'at who are not helping me in this regard and will send down angels from heaven to help me.**" (Friday Sermon, January 5, 1958)

1. Za'im or Muntazim Waqf-e-Jadid should request the local Sadar/Finance Secretary for a list of non-participant Ansar from the previous year and try to motivate them to take part this year.
2. Every Majlis should ensure all Ansar to take part in this blessed scheme. Every new Ahmadi Nasir should also be made aware of this scheme.
3. As a family head, every Nasir should ensure that ALL members of his household participate in this divine scheme. Chanda should even be paid on behalf of new-borns.
4. Ansar should be encouraged to increase on the amount sacrificed by them in the previous year.
5. Ansar should try to continue the sacrifices of deceased relatives who used to pay Chanda Waqf-e-Jadid.
6. A report on how many non-participants (from the previous year) have promised to pay this year **should be given every quarter to the centre.**

Note: The Waqf-e-Jadid year begins on 1st January and ends on 31st December.

وقفِ جدید کی ابتدا حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ نے ۲۷ دسمبر ۱۹۵۷ء کو رکھی۔ اس تحریک کے مقاصد میں دیہاتی جماتوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام کے علاوہ ایسے افراد جو بت پرستی میں مبتلا ہیں کو توحید کا پیغام پہنچانا بھی شامل ہے۔ ابتدائی طور پر اس تحریک میں حصہ لینا پاکستان تک محدود تھا، بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ نے اس تحریک کو عالمگیر حیثیت عطا فرمادی۔

اس تحریک کی اہمیت کے بارہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ فرماتے ہیں۔ ”یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے، خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری مدد کیلئے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔“
(خطبہ مورخہ ۵ جنوری ۱۹۵۸ء)

◈ زعماء کرام و منتظم وقفِ جدید، ایسے انصار جنہوں نے پچھلے سال اس تحریک میں حصہ نہیں لیا، ان کی فہرست حاصل کر کے ان ساتھیوں کو اس مبارک تحریک میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔

◈ ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنی مجلس کا کوئی ناصرا اس تحریک میں شامل ہونے سے محروم نہ رہے۔ نو مبایعین کو بھی اس مقدس تحریک میں شامل کیا جائے۔

◈ خاندان کے سرپرست ہونے کے ناطے ہر ناصرا کو شش کرے کہ گھر کا کوئی فرد اس سکیم میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے۔

◈ اس پہلو پہ بھی توجہ کریں کہ انصار پچھلے سال سے بڑھ کر اس بابرکت تحریک میں حصہ لیں۔

◈ وفات شدگان جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سکیم میں حصہ لے رہے تھے، ان کے عزیز و اقارب کو ان کی مالی قربانی جاری رکھنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔

◈ ایسے انصار کی فہرست مرکز کو ہر سہائی کے آخر میں بھیجوائیں، جو پچھلے سال اس تحریک میں شامل نہ ہوئے لیکن اب انہیں شمولیت کی توفیق ملی ہے۔

وقفِ جدید کا سال یکم جنوری سے شروع ہو کر ۳۱ دسمبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔

مزید معلومات کے لئے

ضیاء الرحمان (قائد وقفِ جدید)

ansarullah@zsols.com - 07814560563